

## Juz 1st

### ROOT WORDS OF SURAH AL-BAQARAH (60-62)

اِسْتَسْقَىٰ	لِقَوْمِهِ	اَضْرَبَ	بِعَصَاكَ	الْحَجَرَ	فَانفَجَرَتْ
س ق ي	ق و م	ض ر ب	ع ص و	ح ج ر	ف ج ر
پانی مانگا	اپنی قوم کے لیے	مارو۔	اپنی لathi سے	پتھر پر	پھر بہ نکل / پھوٹ نکل

اِثْنًا عَشْرَةَ	عَيْنًا	كُلُّ اُنَاسٍ	مَشْرَبُهُمْ	اشْرَبُوا	كُلُوا
ث ن ي - ع ش ر	ع ي ن	ا ن س	ش ر ب	ش ر ب	ا ك ل
بارہ	چشمے	ہر قوم نے	اپنا گھاٹ / پینے کی جگہ اپنی	پیو	کھاؤ

تَعْتُوا	طَعَامٍ	وَاحِدٍ	فَادَعُ	يُخْرِجُ	تُنْبِتُ
ع ث و	ط ع م	و ح د	د ع و	خ ر ج	ن ب ت
فساد مچاتے پھرو	کھانے	ایک (ہی طرح کے)	پس دعا کریں	پیدا کر دے / وہ نکالے	اگاتی ہے

بَقَلِهَا	فَقَاتِلْهَا	فَوْمِهَا	عَدَسِهَا	بَصَلِهَا	اَسْتَسْبِدُّوْنَ
ب ق ل	ق ث ا	ف و م	ع د س	ب ص ل	ب د ل
ساگ اس کا	کڑی اس کی	لہسن اس کا	مسوراس کی	پیاز اس کی	کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو

اَدْنَىٰ	اِهْبِطُوا	مِصْرًا	ضُرِبَتْ	سَأَلْتُمْ	اَلْمَسْكَنَةَ
د ن و	ه ب ط	م ص ر	ض ر ب	س ا ل	س ك ن
ادنیٰ ہے	اُترو / اُڑھو	کسی شہر میں	چمٹا دی گئی	تمہاگتے ہو	محتاجی

بَاءُوا	النَّبِيِّنَ	عَصَوًا	يَعْتَدُونَ	هَادُوا	النَّصَارَى
ب و ا	ن ب ا	ع ص ي	ع د و	ه و د	ن ص ر
ڈال دی / مستحق ہو گئے	نبیوں کو	وہ نافرمانی کرتے تھے	حد سے بڑھ جاتے تھے	یہودی	نصرانی

الصَّابِئِينَ	صَالِحًا	أَجْرُهُمْ	يَخْزَنُونَ
ص ب ا	ص ل ح	ا ج ر	ح ز ن
صائبی	اچھے	اجران کے	وہ غمگین ہوں گے